



سوال

پانچ برس سے میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؛ میں سنی ہوں اور وہ علوی اور اس کے خاندان والے رشتہ دینے سے انکار کرتے ہیں؛ کیونکہ میں سنی ہوں، برائے مہربانی مجھے اس کا کوئی حل بتائیں، اور اگر وہ سنی بن جائے یا میں علوی بن جاؤں تو کیا ہوگا؟

جواب

الحمد للہ

اول:

نصیر یہ جسے علوی بھی کہا جاتا ہے ایک گمراہ اور منحرف اور دائرہ اسلام سے خارج گروہ ہے، ان کے عقائد باطل ادیان سے مخلوط شدہ ہیں، ان کے کفر اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے میں اہل متفق ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، آج لوگوں کے سامنے ان اسلام اور مسلم دشمنی واضح ہو چکی ہے

دوم:

اس بنا پر اس فرقہ اور گروہ کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی ان کا ذبح کیا ہو گوشت کھانا حلال ہے کیونکہ یہ کفار اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، چاہے وہ ان کے خاص ہوں یا عوام، کیونکہ ان کے کفر کی قباحت اور گمراہی و ضلالت واضح ہے، اور پھر جو کوئی بھی غیر اللہ کو الہ و معبود مانے اس کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، اور یہ لوگ تو علی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ و معبود قرار دیتے ہیں، حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بری ہیں

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"یہ درزیہ اور نصیر یہ فرقہ لوگ بالاتفاق کافر ہیں، ان کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں، اور نہ ہی ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے؛ بلکہ یہ جزیہ کا اقرار نہیں کرتے؛ کیونکہ یہ دین اسلام سے مرتد ہیں مسلمان نہیں، اور نہ ہی یہودی اور نصرانی ہیں، اسی طرح یہ نمازہ بھگانہ کو بھی نہیں ملتے اور نہ ہی رمضان المبارک کے روزے تسلیم کرتے ہیں، اور حج کی فرضیت کے بھی قائل نہیں ہے، اور مردار اور شراب وغیرہ جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے کو بھی حرام تسلیم نہیں کرتے، اگرچہ انہوں نے ظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان عقائد کی صورت میں وہ بالاتفاق کافر ہیں" انتہی

دیکھیں: مجموع الفتاویٰ (161/35).

اس لیے جب تک وہ علوی لڑکی تو بہ کر کے ان باطل عقائد اور مذہب کو چھوڑ کر اس سے برات، اور دین اسلام میں رغبت رکھتے ہوئے شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار نہیں کر دیتی، آپ کے لیے علوی لڑکی سے شادی کرنا جائز نہیں، اور یہ حیلہ بازی کے طور پر نہ ہو حقیقتاً اس سے برات کا اظہار ہو

یہ معلوم ہو چکا کہ بالاتفاق کسی مومن شخص کے لیے کافرہ عورت سے اس وقت نکاح کرنا جائز نہیں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آئے

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:



اور تم مشرک عورت سے اس وقت تک نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں البقرة (221).

ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں :

"اہل کتاب کے علاوہ باقی سب کافروں کی عورتوں اور ان کے ذبیحہ کی حرمت میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں، اور اسی طرح مرتد عورت سے بھی نکاح حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتی ہو" انتہی مختصراً

دیکھیں: المغنی (102/7).

آپ نے سوال کے آخر میں جو ذکر کیا ہے کہ "یا پھر میں علوی بن جاؤں؟"

علم نہیں آپ کی اس سے حقیقتاً کیا مراد ہے، کیا یہ آپ کا وسوسہ ہے کہ آپ اس عورت سے نکاح کے لیے علوی بن جائیں؟

اگر تو اس کے متعلق دریافت کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اس وسوسہ سے اللہ کی پناہ میں لاتے ہیں؛ کیونکہ یہ واضح کفر ہے ایسا کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائیں گی

ایک عورت کی بنا پر وہ یہ دین پھوڑ دے!! اور پھر یہ کیا معلوم کہ وہ اسے پا بھی سکے گا یا نہیں؟

اور اگر اسے پا بھی لے تو کیا وہ اس سے فائدہ بھی کر سکے گا، اور اگر کر بھی لے تو کیا اس کی دنیا اس عورت کی وجہ سے سعادت مند بن سکے گی یا نہیں؟

اور اگر دنیا میں کامیابی و سعادت بھی مل گئی، اور کچھ وقت کے لیے فائدہ بھی حاصل ہوا تو آخرت کی تباہی واضح ہے، اور المناک عذاب اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ و بدبختی حاصل ہوگی، پھر اپنے علاوہ کسی کو نقصان نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تو اس سے ہی نہیں بلکہ سارے جہان سے بے پروا ہے

اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین ہیں سب کے سب کفر کرو تو بے شک اللہ یقیناً بڑا بے پروا ہے بے حد تعریف والا ہے ابراہیم (8).

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

اور اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے بہت بے پروا ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے تو وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جانتے والا ہے الزمر (7).

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہدایت نصیب کرے، اور آپ کا سینہ کھولے، اور آپ کو ظاہری اور باطنی سب فتنوں سے محفوظ رکھے

واللہ اعلم.